



راولپنڈی ٹیسٹ: پاکستان کو بنگلہ دیش پر 109 رنز کی سبقت

- بابر اعظم کی ناقابل شکست سنچری
- شان مسعود کے کیرئیر کی تیسری سنچری

راولپنڈی، 8 فروری 2020ء:

پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جاری 2 ٹیسٹ میچوں پر مشتمل سیریز کے پہلے میچ کے دوسرے روز کھیل کے اختتام پر پاکستان نے 3 وکٹوں کے نقصان پر 342 رنز بنالیے ہیں۔ میزبان کو مہمان ٹیم پر 109 رنز کی برتری حاصل ہوگئی ہے جبکہ اس کی 7 وکٹیں باقی ہیں۔ پاکستان کے مڈل آرڈر بیٹسمین بابر اعظم 143 اور اسد شفیق 60 رنز بنا کر کریز پر موجود ہیں۔

پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم راولپنڈی میں جاری ٹیسٹ میچ کے دوسرے روز پاکستان نے بنگلہ دیش کے 233 رنز کے جواب میں اپنی پہلی اننگز کا آغاز کیا تو اوپنر عابد علی بغیر کوئی رنز بنائے ابو جائید کی گیند پر آؤٹ ہو کر پویلین واپس لوٹ گئے، جس کے بعد اوپنر شان مسعود نے کپتان اظہر علی کے ہمراہ 91 رنز کی شراکت قائم کی تاہم اظہر علی بھی 34 رنز بنا کر ابو جائید کی گیند پر سلپ میں کیچ دے بیٹھے۔ تیسری وکٹ کے لیے بابر اعظم اور شان مسعود کے درمیان 112 رنز کی شراکت قائم ہوئی۔ دونوں کھلاڑیوں نے شاندار سنچریاں اسکور کیں۔ شان مسعود کے کیرئیر کی یہ تیسری اور بابر اعظم کی پانچویں سنچری ہے۔ شان مسعود 160 گیندوں پر 11 چوکوں کی بدولت 100 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ انہیں تاجیئل اسلام نے آؤٹ کیا، جس کے بعد بابر اعظم نے اسد شفیق کے ہمراہ اسکور بورڈ کو چلانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ دن کے اختتام پر بابر اعظم 143 اور اسد شفیق 60 رنز بنا کر کریز پر موجود تھے۔

اس سے قبل بنگلہ دیش کی پوری ٹیم پہلی اننگز میں 233 رنز بنا کر آؤٹ ہوگئی تھی۔

پاکستان اسکواڈ:

اظہر علی، سنٹرل پنجاب (کپتان)، عابد علی (سندھ)، اسد شفیق (سندھ)، بابر اعظم (سنٹرل پنجاب)، بلال آصف (سنٹرل پنجاب)، فہیم اشرف (سنٹرل پنجاب)، فواد عالم (سندھ)، حارث سہیل (بلوچستان)، امام الحق (بلوچستان)، عمران خان سینئر (خیبرپختونخوا)، محمد عباس (سدرن پنجاب)، محمد رضوان (خیبرپختونخوا)، نسیم شاہ (سنٹرل پنجاب)، شابین شاہ آفریدی (ناردرن)، شان مسعود (سدرن پنجاب) اور یاسر شاہ (بلوچستان)۔

– ENDS –

Media contact:

Ibrahim Badees Muhammad
Editor – Urdu Content
Media and Communications
E: ibrahim.badees@pcb.com.pk
M: +92 (0) 345 474 3486
W: www.pcb.com.pk